

مطبوعات

انگریزی میں ترجمہ تفہیم القرآن [TOWARDS UNDERSTANDING THE QUR'AN

از مولانا سید ابوالاعلیٰ (مترجم جناب ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری، ڈاکٹر میکیز جنرل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ - انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد پاکستان)

بہ تعاون اے، آر، قدوائی - ناشر: The Islamic Foundation,

پتہ: Leicester LE6 0RH U.K. اے - قیمت نامعلوم۔

فاضل مترجم کی شخصیت سے قارئین پہلے واقف ہیں۔ انہوں نے تعلیم انڈیا، کراچی یونیورسٹی میکسکل یونیورسٹی میں حاصل کی۔

کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر رہے، پھر گنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدو، گنگ فہد یونیورسٹی برائے علوم پٹرول اور معدنیات (دہران) پرنسٹن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف شکاگو، بلورن یونیورسٹی اور میکسکل یونیورسٹی میں تعلیمی و تحقیقی خدمات انجام دیں۔ کئی تحقیقی مقالات لکھے جن میں بعض انسائیکلو پیڈیا برطانیہ تک میں شائع ہوئے۔

تفہیم القرآن کا ایک انگریزی ترجمہ "دی میننگ آف دی قرآن" ترجمہ کردہ چوہدری محمد اکبر مرحوم اور تکمیل یافتہ بقلم عزیز کمال مرحوم موجود ہے اور باعث افادہ عام۔

مگر ڈاکٹر ظفر اسحاق نے ایک نیا ترجمہ خاص اس ضرورت سے لکھا کہ مغربی ممالک میں

لے پتے میں یہ اضافہ بھی کر لیں، لفظ "فاؤنڈیشن" کے بعد — MARKFIELD

DAWAH CENTRE RATBY LANE MARKFIELD